

قضائے رمضان کا روزہ توڑنے پر کفارہ نہیں ہے؟

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے رمضان میں کچھ روزے چھوڑ دئیے تھے جس کی وہ قضا کر رہا تھا ایک دن اس کے دوست اس کو دوپہر کو کھانے کی دعوت دی تو اگر زید رمضان کی قضا کا روزہ توڑ بیٹھا ہوتو اس پر کفارہ تو نہیں؟

سائل: یوسف فرام انڈیا

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بعون الملک الوهاب اللهم هداية الحق والصواب

ادائے رمضان کے علاوہ کسی قسم کا روزہ توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا اگرچہ قضائے رمضان کا روزہ ہی ہو البتہ قضا ضرور واجب ہوگی یعنی ایک روزہ قضا کے طور پر رکھنا ہوگا۔ جیسا کہ درمختار مع ردالمختار میں ہے  
(أَفْسَدَ غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءً) وَقَيْدٌ بِهِ لِإِفَادَةِ نَفِي الْكُفَّارَةِ بِإِفْسَادِ قَضَاءِ رَمَضَانَ لَا نِنْفِي الْقَضَاءِ أَيْضًا بِإِفْسَادِهِ"

ادائے رمضان کے علاوہ روزہ توڑنے سے قضا واجب ہوگی ادا کی قید سے اس بات کا افادہ ہوتا ہے کہ قضائے رمضان کا روزہ توڑنے سے بھی کفارہ نہیں ہوگا مگر قضا کی نفی نہیں ہے یعنی قضا ضرور واجب ہوگی۔

(الدرالمختار مع ردالمختار كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج ۳، ص ۴۳۱ - ۴۳۹)

بہار شریعت میں ہے کہ ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ فاسد کر دیا، اگرچہ وہ رمضان ہی کی قضا ہو۔۔۔ ان سب صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔

(بہار شریعت ج 1 حصہ 5 ص 989 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date: 12-09-2017

## IS THERE AN EXPIATION FOR BREAKING A MAKE-UP FAST?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

### QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: Zaid missed some Fasts during the month of Ramadan, for which he was compensating (doing qada). One day, his friend invited him for some lunch, if he broke the fast which he was compensating from Ramadan, does he have to give expiation (a kaffarah)?

Questioner: Yusuf from India

### ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

It is not necessary to give kaffarah for invalidating any fast except the fast which was broken in Ramadan, even if he invalidated the fast kept to make up the missed fast of Ramadan. However, making up for the fast is necessary that means one fast will have to be kept as is mentioned in Dur e Mukhtar ma'a Rad ul Muhtar:

"(أَفْسَدَ غَيْرَ صَوْمٍ رَمَضَانَ أَدَاءً) وَقَيَّدَ بِهِ لِإِفَادَةِ نَفْيِ الْكُفَّارَةِ بِإِفْسَادِ قِصَاصِ رَمَضَانَ لَا لِتَنْفِي الْقِصَاصِ أَيْضًا بِإِفْسَادِهِ"  
Breaking a fast other than those of the adā of [the current] Ramadan makes qada wājib. By the condition of current, one comes to know that even by breaking a qada fast of Ramadan, kaffārah will not be wājib, but this does not mean that there is negation of qadā, meaning one will still have to keep the qadā fast to make up for the broken one.

[Dur e Mukhtar ma'a Rad ul Muhtar, Book of Fasting, vol.3]

It is mentioned in Bahare Shari'at:

A person broke a fast outside of Ramadan even if it was a fast kept to make up a missed fast in Ramadan, in all of the aforementioned cases, qada is only necessary, not kaffarah.

[Bahare Shari'at, part 1, p989]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

Translated by Haroon Raza

